

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خارجی دفتر ۱۰ در تاریخ ۹۹ مارچ کو ذریعہ سفارت سیدن وارڈ اولان ۶۷۴

نظارہ خارجہ  
مذکورہ سفارت نامہ کے ترجمہ

TDV İSAM  
Kütüphanesi Arşivi  
No HHP.1085



امور سیاسی و دیپلماتیک  
ترجمہ

باسمہ و بی دود سہرانی طرف سے لکھنے والی ضابطہ پر ادائیگی لکھنے والی دوا جی بی ای اولان  
 ضابطہ کے تحت ایک بروہائی ادارہ لکھتے ہیں :  
 " لکھنے والی دوا جی بی ای کے ذریعہ مذکورہ ضابطہ پر خادماں اولیٰ تدارکہ حاجت کو رہ معہ  
 یکا مقصد کا فی ایسے اولاد صحیح و صحتی محافظہ کے تاجا احکام معالجات و مقاولہ کے اولاد  
 تعمیرات و تعمیرات کے عموماً کے لئے قبول و تصویب و ضابطہ کے تاجیہ و تاجا مالک عثمانیہ کے بقول  
 ہوتے ہیں اور جو ایسے لکھتے ہیں وہ - جدید کہ بہت سے قیدیوں کے لئے ہرگز نہ سبب کی طبیعت  
 ہو جائے اس لئے اولاد - بالفاظ اور ویلی کے ذریعہ کاغذ عام و جامع اور یہ اعتنائے زانی اولیٰ  
 امویہ کے ذریعہ لکھتے ہیں فقط احوال حاضرہ کے روز زمانہ و ماٹ روتی و مصافحہ تاب و مقاومت  
 اولیٰ کے لئے بھی بھی ہوتے ہیں۔ دوا جی بی ای کے مالک اولیٰ کے ساتھ ساتھ اور قیدیوں کے ساتھ ساتھ  
 راجہ نے مال کوتر کے لئے یہاں اسباب و عناصر مباحہ اعتنائے اور قیدیوں کے ساتھ ساتھ  
 خصوصاً وہ محافظہ مانتے خادماں - دیپلماتیک مائی جی بی ای کے لئے لکھتے ہیں۔ "